

تعویذ پہن کر واش روم جانا کیسا؟

مجیب: مفتی محمد قاسم عطاری

فتویٰ نمبر: FAM-464

تاریخ اجراء: 02 محرم الحرام 1446ھ / 09 جولائی 2024

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر تعویذ گلے یا بازو پر پہنا ہوا ہو، تو تعویذ کے ساتھ واش روم جاسکتے ہیں، یا تعویذ اتار کر جانا ہوگا؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

کسی کپڑے، ریگزیں، چمڑے وغیرہ میں لپیٹ کر گلے یا بازو میں پہنے گئے تعویذ کے ساتھ واش روم جانا، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، البتہ اتار دینا بہتر ہے۔

در مختار میں ہے: ”رقیة فی غلاف متجاف لم یکره دخول الخلاء به والاحتراز افضل“ ترجمہ: کسی جدا غلاف میں لپٹے ہوئے تعویذ کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہونا، مکروہ نہیں، البتہ بچنا افضل ہے۔ (در مختار، جلد 1، کتاب الطہارة، صفحہ 355، دار المعرفہ، بیروت)

مجمع الانہر میں ہے: ”ولو كان ما فيه شيء من القرآن أو من أسماء الله تعالى في جيبه لا بأس به وكذا لو كان ملفوفاً في شيء لكن التحرز أولى“ ترجمہ: اور اگر جیب میں ایسی چیز ہو جس میں قرآن یا اسمائے الہیہ میں سے کچھ لکھا ہو، تو اس کے ساتھ بیت الخلاء جانے میں حرج نہیں، اسی طرح اگر وہ کسی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو، تو بھی حرج نہیں، لیکن بچنا بہتر ہے۔ (مجمع الانہر، جلد 1، صفحہ 26، دار احیاء التراث العربی)

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تعویذ موم جامہ وغیرہ کر کے غلاف جداگانہ میں رکھ کر پتوں کے گلے میں ڈالنا جائز ہے، اگرچہ اُس میں بعض آیات قرآنیہ ہوں اور اس احتیاط کے ساتھ پاخانے (واش روم) میں لے جانا بھی جائز ہے، ہاں افضل احتراز ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 4، صفحہ 608، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



Dar-ul-IftaAhlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.fatwaqa.com



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net